

19 ستمبر 2018

## برامپٹن میں ثقافتی ایام منائیں

برامپٹن، آن - ثقافتی ایام 28 - 30 ستمبر، کے دوران برامپٹن میں مقامی فنکاروں سے ملاقاتیں کریں، تخلیقی بن جائیں اور فنون و ثقافت کے بارے میں مزید جانیں۔ شہر کی اپنی جاندار اور متنوع کمیونٹی کے ساتھ خوشیاں منانے کے لیے سٹی آف برامپٹن، برامپٹن لائبریری، PAMA اور تخلیقی کمیونٹی کی جانب سے رنگا رنگ عوامی تقریبات، فن کے مظاہروں اور ورکشاپس کے انعقاد کا اہتمام کیا گیا ہے۔

پورے شہر میں موجود مختلف مقامات پر موسیقی، ڈانس، شاعری، وژوئل آرٹ، ثقافتی مظاہروں اور دیگر کئی دلکش سرگرمیوں کا بھرپور لطف اٹھائیں۔ رہائشیوں کی حوصلہ افزائی کی جاتی ہے کہ وہ مقامی فنکاروں سے مربوط ہو کر خاندان بھر کی دلچسپیوں کی سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ تقریبات کی مکمل فہرست کے لیے [brampton.ca/culturedays](http://brampton.ca/culturedays) ملاحظہ کریں۔

اس سال ثقافتی ایام کے ایک حصے کے طور پر، برامپٹن فنون کی ایک نئی عوامی سہولت گاہ کی پردہ کشائی کرے گا، جس کا اہتمام پچھلے سال ایپریل کی 150 ویں برسی کے موقع پر کیا گیا تھا۔ فنکار ٹم ڈسکلواؤٹز نے 'فار دی لو آف اے ہاؤس' کے زیر عنوان دہائی بینچ کی صورت میں ایک مجسمہ تخلیق کیا ہے، جس کو تاریخی عمارت کے گراؤنڈ میں رکھا جائے گا۔ مورخہ 29 ستمبر کو دن 11 بجے باضابطہ پردہ کشائی کی تقریب کے موقع پر یہ فنکار وہاں پر موجود ہوں گے۔

### اقتباس

"ابھرتے ہوئے فنکاروں اور برامپٹن میں پائی جانے والی دلکش جدت کے عوامی سطح پر مظاہرے کے لیے ثقافتی ایام ایک عظیم موقع ہیں۔ میں تمام لوگوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہوں کہ وہ ان دلچسپ اور مفت سرگرمیوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں اور ہمارے مقامی فنکاروں، مصنفین اور موسیقاروں کے بارے میں مزید جانیں اور اپنی شخصیت کے پر جت پہلو کو بھی سامنے لے کر آئیں۔"

- میئر لنڈا جیفری

### ثقافتی ایام کے بارے میں

اپنی 8ویں سالگرہ کے موقع پر ثقافتی ایام کا انعقاد ملک بھر کے سینکڑوں شہروں اور قصبوں میں کیا جا رہا ہے جن میں ہزاروں کی تعداد میں مفت سرگرمیاں اور رنگا رنگ مظاہرے پیش کیے جائیں، بشمول: وژوئل آرٹس، موسیقی، ڈانس، تھیٹر، فن تعمیر، ورثہ، فلم اور ویڈیو، ادب، کھانے پکانے کے فنون اور نیو میڈیا۔

کینیڈا بھر میں لاکھوں کی تعداد میں کینیڈا کے رہائشی ہزاروں کی تعداد میں مفت سرگرمیوں اور فن کے مظاہروں میں شرکت کریں گے جن کا انعقاد فنکاروں، ثقافتی تنظیموں اور میونسپل حکومتوں کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ نوناوت تا نیو برونسوک اور برٹش کولمبیا تا بیون آئیبلینڈ - اور ان کے درمیان تمام مقامات پر - ہم کینیڈا کی ثقافت کے رنگوں کے کی عکاس تمام تر غیبات، فنون، جدت اور جذبات کے اظہار شیئر کریں گے۔ ثقافتی ایام کے بارے میں قومی آگاہی مہم کا اختتام فنون کی تین روزہ تقریبات کے آغاز پر ہو گا جو ستمبر کے آخری جمعہ سے شروع ہوں گی۔

30--

برامپٹن پڑا سوچ رہا ہے۔ ہم تیز توجہ کے ساتھ مستقبل کے لیے تیار ایک تنظیم ہیں۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری کمیونٹی کی بڑھوتری، نوجوانی اور تنوع ہمیں سب سے علیحدہ کرتی ہیں۔ ہم کینیڈا کے انویشن سپر کوریڈور کے مرکز میں موجود ہیں، جو سرمایہ کاری کی حوصلہ افزائی کرتا ہے اور ہماری عالمی کامیابی کو بڑھاتا ہے۔ ہم متنوع اربن سینٹرز تعمیر کر رہے ہیں، جو یہاں رہنے اور کام کرنے والے لوگوں کے لیے مواقع اور ان میں فخر کا جذبہ پیدا کرتے ہیں۔ ہم برامپٹن کو ایک ایسے مربوط شہر بنانے کی جانب آگے بڑھا رہے ہیں، جو جدت پسند، جڑا ہوا اور نثر ہو۔ ہمیں ٹوئٹر اور فیس بک پر فالو کریں۔ [www.brampton.ca](http://www.brampton.ca) پر مزید جانیں۔

میڈیا کنٹیکٹ

نتالی سٹوگڈیل  
میڈیا ریلیشنز  
سٹی آف برامپٹن

[natalie.stogdill@brampton.ca](mailto:natalie.stogdill@brampton.ca) | 905.874.3654